



سوال

کیا نیک و صاحب یوں کو روزے دار اور قیام کرنے والے کا ثواب ثابت ہے؟

جواب

الحمد لله

لکھا ہے آپ کا مقصد طبرانی کی درج ذمل حدیث ہے:

عمرو بن سعید خولانی رحمہ اللہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی پرورش کرنے والی سلامہ نے عرض کیا:

اسے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو توبہ قسم کی بھلانی و خیر کی خوشخبری دیتے رہتے ہیں لیکن عورتوں کو خوشخبری نہیں دیتے؟

چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"اکیا تم میں سے کوئی اس پر راضی نہیں کہ اگر وہ اپنی خاوند کی حاملہ ہو اور خاوند اس سے راضی ہوتے تو اسے روزے دار اور اللہ کی راہ میں قیام کرنے والے کا ثواب حاصل ہو؛"

الحمد لله

المجم الاوسيط للطبراني حدیث نمبر (6733) اور ابن عساکر نے اسے التاریخ (348/43) میں بھی روایت کیا ہے

لیکن یہ حدیث موضوع اور من گھرست ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں:

"اس کے موضوع ہونے کے اشارے واضح ہیں، اور اس کی آفت خولانی ہے، امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں:

اس نے موضوعات بیان کی ہیں "پھر اس کی اس حدیث کو ہی بیان کیا ہے، اور ابن الجوزی نے اسے الموضوعات (274/2) میں بیان کرنے کے بعد کہا ہے: ابن جبان کا قول ہے: عمرو بن سعد جو اس موضوع حدیث کو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتا ہے اسے صرف خاص لوگوں کے لیے ہی بیان کرنا حلال ہے تاکہ اس کے موضوع ہونے کا علم ہو جائے" اور امام سیوطی نے "اللائل (2/175)" میں بھی یہی کہا ہے "انتهی

ویکھیں: سلسلۃ الاحادیث الضعیفۃ والموضوعۃ (5/76).

ابن جبان نے کتاب المجموعین اور ابن عدل نے الکامل میں حسن، بن محمد الجعفی عن عوف الاعربی عن ابن سیرین عن ابی حیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طبق سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"جب عورت حاملہ ہو جائے تو اسے روزے دار اور قیام کرنے اور قوت کرنے اور اللہ کی راہ میں نکلنے والے مجاحد کا ثواب حاصل ہوتا ہے"

کتاب المجموعین (1/238) الکامل لابن عدی (3/167) ابن عدی نے اسے منکر کہا ہے، اور ابن الجوزی نے اسے الموضوعات (2/274) میں ذکر کیا ہے، اور علامہ



بچلریجمنٹ اسلامی پروگرام
مددِ فلسفی

البانی رحمہ اللہ نے الصعیفۃ حدیث نمبر (5085) میں موضوع قرار دیا ہے

اس موضوع اور من کھڑت روایت کی بجائے مسند احمد کی درج ذیل صحیح حدیث ہی کافی ہے:

عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"جب عورت پابندی سے پانچ نمازیں ادا کرے، اور رمضان کے روزے رکھے، اور اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرے، اور خاوند کی اطاعت کرتی ہو تو اسے کہا جائیکا تم جنت کے جس دروازے سے چاہو دخل ہو جاؤ"

مسند احمد حدیث نمبر (1664) علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع حدیث نمبر (660) میں اسے صحیح قرار دیا ہے

واللہ اعلم.